

نسلی مساوات کے فروغ کے لیے موجودہ اور مجوزہ اقدامات

ہانگ کانگ کونسل برائے پیداوار (ہانگ کانگ پروڈکٹیویٹی کونسل)

ہانگ کانگ کونسل برائے پیداوار (ہانگ کانگ پروڈکٹیویٹی کونسل) (HKPC) ایک کثیرالضوابط تنظیم ہے جو سن 1967 میں آئین کے تحت قائم کی گئی تھی ، تاکہ ہانگ کانگ کے کاروباری اداروں کی مدد کے لیے مربوط جدید تکنیکی مہارت اور چدّت کی خدمات کی پیشکش کے ذریعہ پیداواری صلاحیتوں کو فروغ دیا جاسکے۔ HKPC ہانگ کانگ کی صنعتی طور پر ترقی کو i4.0 اور e4.0 کے ذریعے باختیار بنانے کی سہولت فراہم کرنے - R&D ، IoT ، بڑے اعداد و شمار کے تجزیات، AI اور روبوٹ سے متعلقہ صنعت و حرفت کی ترقی، ڈیجیٹل صنعتکاری، وغیرہ، پر توجہ دینے، کاروباری اداروں اور صنعتوں کو اپنی کاروباری کارکردگی کو بہتر کرنے ، اخراجات میں کمی کرنے ، پیداواری صلاحیت میں اضافہ اور مقابلے کی فضاء پیدا کرنے میں مدد کرنے کی علمبردار اور ماہر ہے۔

متعلقہ خدمات ● HKPC صنعت کو تکنیکی مہارت اور انتظامی مشاورت کی خدمات کے ساتھ ساتھ تربیت بھی فراہم کرتی ہے۔

موجودہ اقدامات ● خدمت کی فراہمی

- HKPC کی مشاورت اور تربیت کی خدمات ، وغیرہ جہاں ضروری ہو انگریزی اور/ یا چائینیز زبان میں فراہم کی جاتی ہیں۔

● معلومات کی ترسیل:

- HKPC کی منظم معلومات اور خدمات کو عام لوگوں کی آسانی سے سمجھنے کے لیے اس کی ویب سائٹ پر دو زبانوں (انگریزی اور/ یا چائینیز) میں شائع کیا گیا ہے۔

- ای میلز یا فون کے ذریعہ عوامی پوچھ گچھ کا اطلاق جہاں ضروری ہو انگریزی اور / یا چائینیز زبان میں ہوتا ہے

● عملے کی تربیت:

- EOC کے ساتھ وقفہ وقفہ سے منظم تربیت کے ذریعے نسلی حساسیت ، ثقافتی فرق اور نسلی امتیازی قانون (ریس ڈیسکریمینیشن آرڈیننس) (RDO) کے بارے میں عملے کے شعور کو بڑھانا۔

مستقبل کے کام کا جائزہ

● HKPC موجودہ اقدامات پر عمل درآمد جاری رکھے گی ، اور نسل کے حوالے سے غیرجانبداری کو یقینی بنانے کے لیے ، اور جہاں ضروری ہو وہاں بہتری لانے کے لیے باقاعدگی سے اپنی خدمت کی فراہمی کا جائزہ لے گی ۔

لیے گئے/ لیے
جانے والے اضافی
اقدامات

● نسلی پس منظر سے قطع نظر ، HKPC عوام کے ممبروں کو یکساں طور پر خدمات یا معلومات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ، خدمات اور

اقدامات کو فراہم

کرتے وقت مختلف نسلی گروہوں کی ضروریات کا مشاہدہ کرتی رہے گی۔

- HKPC جہاں ضروری ہو وہاں 8 زبانوں (جیسے بھاسا انڈونیشیا ، ہندی ، نیپالی ، تگالوگ ، تھائی ، اردو ، ویتنامی اور پنجابی) میں اپنی خدمات یا معلومات فراہم کرے گی۔

نسلی مساوات کے فروغ سے متعلق موجودہ اور مجوزہ اقدامات کے بارے میں پوچھ گچھ کے لیے ، براہ کرم درج ذیل چینلز کے ذریعے ہمارے ہیومن ریسورس مینیجر سے رابطہ کریں۔

2788 5091	:	ٹیلیفون نمبر
-	:	فیکس نمبر
agnes@hkpc.org	:	ای میل
HKPC Building, 78 Tat Chee Avenue, Kowloon	:	ڈاک کا پتہ

بانگ کانگ کونسل برائے پیداوار
(بانگ کانگ پروڈکٹیویٹی کونسل)

جون 2021